

EFU INVESTMENT PLUS PLAN

A LIFE INSURANCE PLAN,
AS EXCLUSIVE AS YOUR GOALS

EFU Investment Plus Plan

EFU Life brings EFU Investment Plus Plan, an exclusive product for elite customers that help you in planning your finances better so that your future years are the best years of your life.

This is an investment plan combined with life insurance cover. With this plan, you can make yourself relax knowing that our financial experts are looking after your investments and putting your money to work for you.

Not only does this plan allow you to earn significant returns on your investment in a very short period of time, it also provides significant life insurance coverage, protecting you and your family against the unexpected.



Opportunity for Growth:

Every premium paid towards the plan will be invested in one or two of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives.

You can select from the following unit funds mentioned below:

- **EFU Managed Growth Fund** - An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities and other fixed income instruments and cash.
- **EFU Guaranteed Growth Fund*** - An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fall. It aims to achieve stable growth through investment in short term debt securities.
- **EFU Aggressive Fund** - An investment fund with the aim of investing in equities providing a higher rate of return. It aims to maximise capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

Multiple Funds Option: Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in the multiple of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

***EFU Guaranteed Growth Fund to be selected by default**

Free Look Period:

If you cancel your policy within free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of premium less any expenses incurred by EFU Life in connection with our medical or clinical examinations.

Benefits:

Death Benefit:

The unfortunate demise of the policy holder (insured person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

- Sum assured of the main plan or Cash value of the units applicable to the regular basic plan premium (whichever is higher).

Plus

Cash value of the units applicable to Fund Acceleration Premium (FAP).

Sum Assured:

This is the amount payable on the unfortunate event of death of the policy holder/life assured. This is equal to the Regular Basic Plan Premium times the protection multiple selected by the policy holder. The Protection Multiple is subject to limits dependent on the age at commencement. Refer to the table below for further details:

Age	Protection Multiple
18-35	5 to 75
36-40	5 to 50
41-49	5 to 35
50-60	5 to (70-age)
61-65	5

Maturity Benefit:

The policy holder (insured person) is entitled to:

- The total cash value at the maturity of the plan.

Plus

- Cash Value applicable of FAP (if any)

PRIMUS Benefit:

Another exclusive feature for our customers is PRIMUS. PRIMUS is the first of its kind concept in the Life insurance Industry. With PRIMUS you will experience a whole new world of exclusive benefits especially designed to cater to your needs.

Optional Benefits:

Family Income Benefit: This benefit ensures that a monthly income is paid to the family in case of an unfortunate death of the policy holder (insured person) during the plan term.

Accidental Death Benefit*: If death occurs due to accident; this benefit provides an additional lump sum benefit.

Accidental Death and Disability Benefit*: This rider provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability.

Lifecare Plus Benefit: This rider provides a flexible benefit ranging from Rs. 50,000 to sum equivalent to main plan sum assured subject to a maximum of Rs.1.5 million, upon the diagnosis or the occurrence of any 15 covered critical illnesses.

Waiver of Premium: In case the life assured is unable to follow any occupation due to the sickness or accident, the premium would be paid by EFU Life.

Additional Term Assurance: This rider increases the level of life cover by providing an additional amount in the range of 50% to 200% of the Main Plan Sum Assured, in case of death of the Life Assured.

***Any one accidental death benefits can be selected at a time.**

Unit allocation:

Premiums are allocated to the investment fund based on the following unit allocation percentages:

Year	Allocation as percentage of Premium
1	67%
2	97%
3 & Onwards	100% Plus Allocation Booster

Allocation Booster:

The longer you continue the plan, the higher are the rewards. This plan offers you loyalty bonus in the form of extra unit allocation. If the plan has been continuously in-force, there will be an extra unit starting from the end of 5th policy year.

Policy Year	Allocation as percentage of Premium
5	5%
7	7%
10	15%
15	20%
20	25%
25	30%

Fund Acceleration Premium:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash values. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Premium payments. You can make these payments at any time while the policy is in force. The minimum FAP payment is Rs. 50,000.

100% of FAP payments are allocated to purchase units in the selected fund.

Complete and Partial Surrender:

The plan provides complete access to accumulated fund value during the plan term. Total units accumulated can be withdrawn after the second year's regular premium payment. A facility for partial withdrawals is also available subject to Rs.200,000 remaining in the fund. If the customer opts for complete surrender, all units will be encashed and the plan will be terminated.

Claim:

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any NBP Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021- 111-338-111) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at cod@efulife.com. Thereafter, you will be contacted for next steps.

Indexation Benefit:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year. Once you select this option, the premium will increase every year by 5% of the prior year's premium. Similarly, the sum assured, and additional benefits will increase in the same proportion. However, you can opt to increase only the premium while keeping the sum assured at the initial level. Sum Assured indexation is only available until age 55, provided you were accepted on standard terms initially.

FAQs

What is the Applicable age and tenure?

Minimum savings term is 5 years, maximum 25 years subject to a maximum age of 75 years. This plan

is available for all individuals aged between 18 and 65 years on next birthday.

What the minimum Premium requirements?

Minimum annual basic plan premium is Rs. 200,000/- only.

What are the charges?

Investment Management Charges: 0.125% of the fund value per month

Bid / Offer Spread: 5% of the regular premium

Administration charges: Rs.180 per month


**If you have any query regarding your policy, you may contact EFU Life Assurance on
(021) 111- EFU-(111 338-111).**

Disclaimer:

- This product is underwritten by EFU Life Assurance Ltd. It is not guaranteed or insured by National Bank of Pakistan (NBP) or its affiliates and is not a National Bank of Pakistan (NBP) product.
- National Bank of Pakistan (NBP) is just a promoter/distributor and corporate insurance agent of this product to its valued customers.
- Growth in the value of your premiums will depends on the performance of the selected Fund in which the premiums are invested.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the policy holder.
- The past performance of the fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the Fund and neither EFU Life Assurance Ltd. nor National Bank of Pakistan (NBP) will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our sales representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions.
- Taxes will be applicable as per the taxation laws as stipulated by the relevant authorities.
- A description of how the contract works is given in the policy provisions and conditions. This product brochure only gives a general outline of the product features and benefits.

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efulife.com



ای ایف یو انویسٹمنٹ پلس پلان

آپ کے اہداف ہی کی طرح خصوصی، ایک بیمہ حیات پلان

ای ایف یو انویسٹمنٹ پلس پلان

ای ایف یو بیٹر لائف لایا ای ایف یو انویسٹمنٹ پلس پلان، ممتاز صارفین کے لئے ایک امتیازی پروڈکٹ جو آپ کو اپنی مالیات کی بہترین منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ کے مستقبل کے سال آپ کی زندگی کے بہترین سال ہوں۔

یہ بیمہ حیات تحفظ اور سرمایہ کاری کا ایک مجموعہ ہے۔ اس پلان کو خریدنے کے بعد آپ یہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے مالی ماہرین آپ کی سرمایہ کاری کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کے پیسے کو آپ کے لئے کارآمد بنا رہے ہیں۔

یہ پلان نہ صرف آپ کو اپنی سرمایہ کاریوں پر ایک مختصر عرصے میں نمایاں آمدنی کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو غیر متوقع حالات میں محفوظ رکھنے کیلئے ایک خصوصی زندگی بیمہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔

نشوونما کے لئے مواقع: اس پلان میں ادا کیا جانے والا ہر پریمیم ای ایف یو لائف کے منتخب کردہ کسی ایک یا دو سرمایہ کاری فنڈز میں لگا جائے گا۔ مکمل طور پر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اپنے سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر فنڈ کا انتخاب کریں۔

آپ درج ذیل یونٹ سے منسلک فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

ای ایف یو میجنڈ گروتھ فنڈ: ایک متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر مشتمل سرمایہ کاری فنڈ۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری سیکورٹیز، مختلط طور پر منتخب کی گئی بلوچپ ایکویٹیز اور دیگر مقررہ آمدنی کے ذرائع اور نقد سرمایہ کاری کے ذریعے، سرمائے کی مناسب نشوونما اور مستحکم منافع جات حاصل کرنا ہے۔

ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ: مستحکم منافع جات فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ اس ضمانت کے ساتھ کہ فنڈ کی بولی قیمت (پڈ پرائس) کبھی نیچے نہیں آئے گی۔ اس کا مقصد قلیل المدت ڈیٹ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے مستحکم نشوونما حاصل کرنا ہے۔

ای ایف یو ایگریسو فنڈ: ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کر کے تیزی سے آمدنی حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری کے ساتھ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کی نشوونما کو بڑھانا ہے۔

متعدہ فنڈز کی سہولت (ملٹپل فنڈز آپشن): اس اختیار کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈز کو 10 فیصد کے ملٹپل کے تحت منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/90، 20/80، 30/70، 40/60 یا 50/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا

غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پریڈ): اگر آپ دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے غور و فکر دورانے کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ای ایف یو لائف کے طبی/کلیمیکل معائنہ جات کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات منہا کر کے، پرییم کی مکمل ادائیگی کی واپسی کا اہل ہوں گے۔

فوائد

فوائد بصورت فوتگی: پالیسی ہولڈر (بیمہ دار) کی ناگہانی وفات کی صورت میں مستفیدان (بینیفیشریز) کو مندرجہ ذیل ڈیٹھ بینیفٹ کی صورت میں حاصل ہوگا:

- بنیادی پلان کا زربیمہ یا نوٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو) ان میں سے بھی زیادہ ہو

مع

- اضافی اختیاری پرمیئم (فنڈ ایکسلریشن پرمیئم) کے نوٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو)

زربیمہ (سم اشورڈ)

یہ گارنٹیڈ رقم وفات کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ بیمہ تحفظ یا زربیمہ پلان خریدتے وقت صارف اس کو عمر کے مطابق دئے گئے اختیارات کی رینج میں سے منتخب کر سکتا ہے۔ اس کا تعین بنیادی پلان کے پرمیئم کو درج ذیل ٹیبل میں دئے گئے "پروٹیکشن ملٹل" سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے:

عمر (سال)	پروٹیکشن ملٹل
18 سے 35 سال	5 سے 75
36 سے 40 سال	5 سے 50
41 سے 49 سال	5 سے 35
50 سے 60 سال	5 سے (70- عمر)
61 سے 65 سال	5

مجبوری بینیفٹ: پلان کی تکمیل پر پالیسی ہولڈر (بیمہ دار) کو:

- تمام نقد مالیت (کیش ویلیو) ادا کی جائے گی

پلس

- باقاعدہ پلان پرمیئم کی نقد مالیت (کیش ویلیو)

اضافی اختیاری پرمیئم (فنڈ ایکسلریشن پرمیئم) کے نوٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو)، اگر کوئی ہو

پرائمس:

ہمارے صارفین کے لئے ایک اور منفرد خصوصیت پرائمس ہے۔ پرائمس زندگی بیمہ انڈسٹری میں اپنی نوعیت کا پہلا تصور ہے۔ پرائمس سے آپ ان منفرد فوائد کی ایک مکمل نئی دنیا کا تجربہ حاصل کریں گے جو خاص طور پر آپ کی ضروریات پوری کرنے کیلئے تشکیل دیا گیا ہے۔

ضمنی فوائد:

فیملی انکم بینیفٹ: یہ اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ پلان کی مدت کے دوران بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی ناگہانی وفات کی صورت میں اس کے خاندان کو ایک ماہانہ آمدنی قابل ادا ہوگی۔

ایکسڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ: * حادثاتی وفات کی صورت میں، یہ ضمنی فائدہ (رائڈر) اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے
ایکسڈنٹل ڈیٹھ اینڈ ڈس ایبیلیٹی بینیفٹ: * حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں، یہ ضمنی فائدہ (رائڈر) اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

الائف کیئر پلس بینیفٹ: یہ ضمنی فائدہ (رائڈر)، 15 تحفظ شدہ سنگین بیماریوں میں سے کسی کے بھی ہو جانے پر یا تشخیص پر، 50,000 روپے کی حد سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ 1.5 ملین روپے سے مشروط اصل پلان کے زیر بیمہ کے مساوی ایک لچکدار فائدہ فراہم کرتا ہے۔

ویور آف پریمیم: اگر بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کسی بیماری یا حادثے کے باعث کوئی پیشہ اختیار کرنے سے قاصر ہو تو پریمیم کی رقم ای ایف یو الائف ادا کرے گی۔

ایڈیشنل ٹرم اشورنس: بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی وفات کی صورت میں یہ ضمنی فائدہ (رائڈر) بنیادی پلان کے زیر بیمہ کا 50 فیصد سے 200 فیصد تک ایک اضافی رقم مہیا کر کے زندگی کے تحفظ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔
*** ایکسڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ** میں سے صرف ایک ہی کا انتخاب کی جاسکتا ہے۔

یونٹ کی ایلوکیشن:

سرمایہ کاری فنڈ میں مختص کئے جانے والے پریمیمز درج ذیل یونٹ تخصیص کی فیصد کے اعتبار سے مختص ہوتے ہیں

یونٹ کی ایلوکیشن	پالیسی سال
67 فیصد	1
97 فیصد	2
100 فیصد پلس ایلوکیشن بوسٹر	3 اور اس سے زیادہ

ایلوکیشن کی بروہوٹری (ایلوکیشن بوسٹر):

پلان سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کا انحصار پلان کے زیادہ مدت پر ہوتا ہے۔ یہ پلان اضافی یونٹ ایلوکیشن کو خیر خواہی بونس (الائمی بونس) کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اگر پلان مسلسل نافذ العمل رہے تو پانچویں پالیسی سال کے آخر سے ایک اضافی یونٹ کی شرح شروع ہوگا:

پالیسی سال	پونٹ کی فیصد کے اعتبار سے تخصیص
5	5 فیصد
7	7 فیصد
10	15 فیصد
15	20 فیصد
20	25 فیصد
25	30 فیصد

اضافی اختیاری پرمیئم (فنڈ ایکسٹریشن پرمیئم):

اگر آپ کے پاس پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی نقد رقم موجود ہو تو اپنی نقد اقدار (کیش ویلیو) کو بڑھانے کے لئے آپ اس کو پلان میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسٹریشن پرمیئم کہتے ہیں۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کے نافذ العمل ہوتے ہوئے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم فنڈ ایکسٹریشن پرمیئم 50,000 روپے فی ادائیگی ہے۔

فنڈ ایکسٹریشن پرمیئم ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں پونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے

مکمل اور جزوی دستبرداری:

یہ پلان کسی بھی وقت، اس کی مدت کے دوران مجموعی نقد مالیت (کیش ویلیو) تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے۔ پلان میں جمع شدہ تمام پونٹس دوسرے سال کے باقاعدہ پرمیئم کی ادائیگی کے بعد نکلائے جاسکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی سہولت بھی موجود ہے بشرطیکہ فنڈ میں 200,000 روپے کی رقم بھی موجود ہو۔ اگر صارف پلان سے مکمل دستبرداری حاصل کرتا ہے تو تمام پونٹس کے مساوی کو نقد ادائیگی کے لئے پلان کو منسوخ کر دیا جائے گا۔

دعویٰ (کلیم):

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں، آپ اپنے دعوے (کلیم) کی اطلاع نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی شاخ میں جا کر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکریا ملک میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کے لئے آپ ہمارے کال سینٹر 021-111-338-111 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریئے اور ہمیں cod@efulife.com پر ای میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل سے آگاہ کرنے کیلئے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔

افراط زر (انڈیکسیشن):

یہ انتخاب آپ کو ذہنی سکون اور تحفظ مہیا کرتا ہے کہ پلان میں دئے گئے فوائد سالانہ انڈیکسیشن کے ساتھ خود بہ خود بڑھ جائیں گے۔ اس اختیار کے تحت آپ کا پریمیئم پچھلے سال کے پریمیئم سے 5 فیصد بڑھیکا۔ اسی طرح، زریبہ اور اضافی فوائد بھی اسی تناسب سے بڑھ جائیں گے۔ البتہ آپ زریبہ کو اتنا ہی رکھتے ہوئے صرف پریمیئم کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ افراط زر کے تحت زریبہ میں اضافہ صرف 55 سال کی عمر تک ہو سکتا ہے، بشرطیکہ پالیسی کی ابتدا میں معیاری شرائط منظور کی گئی ہوں۔

عمومی طور پر پوچھے جانے والے سوالات:

قابل اطلاق عمر اور مدت کیا ہے؟

اس پلان کی کم از کم مدت 5 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ 25 سال جو زیادہ سے زیادہ 75 سال کی عمر سے مشروط ہے۔ تمام افراد جن کی عمر 18 سے 65 کے درمیان ہو (اگلی سالگرہ پر) اس پلان کے اہل ہیں۔

کم از کم پریمیئم کی ضروریات کیا ہیں؟

کم از کم سالانہ بنیادی پلان کا پریمیئم صرف 200,000 روپے سالانہ ہے۔

چار جز کیا ہیں؟

- سرمایہ داری اخراجات (انوسٹمنٹ مینجمنٹ چارجز): فنڈ مالیت کا 0.125 فیصد ماہانہ؛
- بڈ آفر (بولی پیشکش) اسپرڈ: کل باقاعدہ پریمیئم کا 5 فیصد؛
- ایڈمنسٹریشن چارجز: 180 روپے ماہانہ؛

اپنی پالیسی سے متعلق کسی بھی معلومات کے لئے آپ ای ایف یو لائف انشورنس (111-338-EFU-111) (021) سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

انتباہ

- یہ پروڈکٹ ای ایف یو لائف کی پیش کردہ ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان یا اس سے ملحقہ کسی ادارے سے ضمانت کردہ یا بیمہ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان کی پروڈکٹ ہے۔
- نیشنل بینک آف پاکستان اپنے قابل قدر صارفین کے لئے اس پروڈکٹ کا صرف تقسیم کار/تشہیر کار اور کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ ہے
- آپ کے پریمیئمز کی قدر میں نشوونما کا انحصار منتخب شدہ فنڈز کی جس میں پریمیئمز کی سرمایہ کاری کی گئی ہوگا کردگی پر ہوگا
- منتخب شدہ فنڈز میں کی گئی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ میں رسک کی صورت حال پر منحصر کرتی ہیں۔ منتخب شدہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کارکردگی میں خطرہ بیمہ دار کی ذمہ داری ہوگا

- فنڈ کی سابقہ کارکردگی ضروری نہیں کہ مستقبل کے خطرے کی نشاندہی کرے۔ اسی طور پر کوئی بھی پیشین گوئی فنڈ کی ممکنہ یا مستقبل کی کارکردگی کے طور پر لینا ضروری نہیں اور نہ ہی ای ایف یو لائف اور نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان اس کے لئے کوئی ذمہ داری قبول کرے گا
- فوائد کی ایک انفرادی وضاحت آپ کو ہمارے سیلرز کے نمائندے کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ براہ مہربانی مختلف شرائط و ضوابط کو تفصیلی طور پر سمجھنے کیلئے شذرات ملاحظہ کیجئے
- متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ ٹیکس کے قوانین کے تحت ٹیکسوں کا اطلاق ہوگا
- معاہدہ کن خطوط پر کام کرتا ہے اس کی وضاحت پالیسی کے شرائط و ضوابط میں کی گئی ہے۔ یہ کتابچہ منصوبے کے خدوخال اور فوائد کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے

ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ
ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔
فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efulife.com